



سوال

(795) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے کتنے ہیں کہ یہ تسے والے جوتوں کے بارے میں ہے، عام جوتوں کے بارے میں؟ وضاحت فرمائیے؟ (محمد یونس، نوشہرہ ورکاں)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حدیث کے لفظ: ((نَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّعِلَ الرَّجُلُ قَاتِمًا)) [”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا۔“] 1 ہر قسم کے جوتوں کو شامل ہے۔ جیسے لفظ: ((إِذَا انْتَعَلَ كُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا انْتَرَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيَمِينُ أَوْلَىٰ لِمَا تُنْعَلُ وَأَخْرَجَهَا مُنْزَعًا))

[”تم میں سے جب کوئی جوتا پہننے تو پہلے دایاں پاؤں ڈالے اور جب اتارے پہلے بائیں پاؤں نکالے، تاکہ دایاں پاؤں پہننے میں اول اور اتارنے میں آخر ہو۔“] 2 ہمہ قسم کے جوتوں کو تناول ہیں جوتوں والے جوتے مراد لیتے ہیں تخصیص کی دلیل ان کے ذمہ ہے۔

1 سنن ابن ماجہ، کتاب اللباس، باب الانتعال قاتما 2 صحیح بخاری، کتاب اللباس، باب: ینزع نعلہ الیسری

قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل

جلد 02 ص 772

محدث فتویٰ